



It's our Backyard

The Australian bush is a special place, we want you to have fun and stay safe.



Avoid bushwalking on very hot days, check Council website for reserve closures during bushfire danger periods.



Mind your feet, trails can be uneven and steep



Don't jump off rocks into the water as there may be submerged objects



Be mindful of water quality, particularly after rainfall



Rivers can rise quickly, if you can't swim don't enter the water



Always go with a friend, wear suitable clothing and take food and water



Always carry a mobile phone and note some locations might not have reception



Keep a lookout for local wildlife including snakes

In an emergency call 000 Or 112 on a mobile phone for emergency services.



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

تعتبر الغابات الأسترالية مكانًا خاصًا ، نحن نريدك أن تقضي وقتًا ممتعًا وتبقى آمنًا.

تجنب المشي في الغابات في الأيام الحارة جدًا ، تحقق من موقع البلدية على الإنترنت لمعرفة أوقات إغلاق المحمية خلال فترات خطر حرائق الغابات



انتبه لخطواتك ، فقد تكون الممرات غير مستوية وشديدة الانحدار



لا تقفز من أعلى الصخور إلى الماء فقد تكون هناك أشياء مغمورة تحت الماء



انتبه إلى جودة المياه ، خاصة بعد هطول الأمطار



يمكن أن ترتفع الأنهار بسرعة ، إذا كنت لا تستطيع السباحة فلا تدخل الماء



اذهب دائمًا برفقة صديق وقم بارتداء ملابس مناسبة وخذ معك الطعام والماء



احمل دائمًا هاتفًا جوالًا واعلم أن بعض المواقع قد لا يكون فيها استقبال الهاتف



احترس من الحيوانات البرية المحلية بما في ذلك الثعابين



In an emergency call 000 Or 112 on a mobile phone for emergency services.



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

অস্ট্রেলিয়ার বনাঞ্চল একটি বিশেষ স্থান, আমরা চাই আপনারা মজা করুন ও নিরাপদে থাকুন।



প্রচন্ড গরমের দিনে বনে হাঁটার্হাটি (বুশ ওয়াকিং) এড়িয়ে চলুন, বনে আগুন লাগা (বুশ ফায়ার) কালীন বিপদজনক সময়ে এই সংরক্ষিত এলাকা বন্ধ থাকার বিষয়ে জানতে কাউন্সিলের ওয়েব সাইট দেখুন



আপনার পদক্ষেপের দিকে খেয়াল রাখুন, বনে চলার পথ (ট্রেইল) অসমতল ও খাড়াঁ হতে পারে



পাথর থেকে পানিতে ঝাঁপ দিবেন না কারণ এতে নিমজ্জিত বস্তু থাকতে পারে



পানির গুণগতমানের দিকে খেয়াল রাখবেন, বিশেষত বৃষ্টির পর



নদীর পানি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আপনি সাঁতার না জানলে পানিতে নামবেন না



সবসময় একজন বন্ধুর সাথে যাবেন, যথোপযোগী পোষাক পরবেন এবং খাদ্য ও পানীয় নিবেন



সবসময় মোবাইল ফোন বহন করবেন এবং মনে রাখবেন কিছুজায়গায় রিসেপশন নাও থাকতে পারে



সাপ সহ স্থানীয় বন্য প্রাণীর বিষয়ে সতর্ক থাকুন

জরুরী প্রয়োজনে ০০০ তে ফোন করুন বা জরুরী সেবার জন্য মোবাইল ফোনে ১১২ তে ফোন করুন



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

澳洲丛林区是很特别的地方，我们希望您玩得开心并保持安全。



避免在非常炎热的日子里进行丛林徒步，请查看市政府网站，了解在丛林大火危险期间保护区是否关闭。



注意你的脚下，山径小路可能崎岖不平也很陡峭



不要从岩石上跳入水中，因为水下可能有物体



请注意水质，尤其是在降雨后



河水会涨得很快，不会游泳就别下水



请务必和朋友同行，穿着合适的衣服，带好食物和饮水



请务必随身携带手机，并注意某些地方可能没有信号



小心提防当地的野生动物，包括蛇

紧急情况下请用手机拨打 **000** 或 **112** 请求紧急服务。



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation











CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

Ang kagubatan sa Australya ay isang espesyal na lugar, gusto naming magkaroon kayo ng kaligayahan at manatiling ligtas.

-  Iwasang mag-bushwalking sa mga maiinit na araw, tingnan ang Council website kung nakasara ang reserve dahil sa mapeligrong panahon ng bushfire
-  Ingatan ang inyong mga paa, may mga landas na hindi lebel at matarik
-  Huwag lulundag mula sa mga bato patungo sa tubig dahil baka may mga nakatagong mga bagay sa ibaba
-  Maging maingat sa kalidad ng tubig, lalo na pagkatapos ng ulan!
-  Madaling tataas ang mga ilog, kung hindi ka marunong lumangoy huwag pumasok sa tubig
-  Palaging may kasama, magsuot ng nababagay na damit at magdala ng pagkain at inuming tubig
-  Palaging dala-dala ng mobile phone at tandaan na maaaring walang reception/signal ang ilang lugar.
-  Antabayanan ang mga hayop sa gubat katulad ng mga ahas

Kapag may emerhensya, tawagan ang 000 O 112 mula sa mobile phone para sa mga serbisyong pang-emerhensya.



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

ऑस्ट्रेलियन बुश एक विशेष स्थान है, हम चाहते हैं कि आप आनन्द लें और सुरक्षित रहें।



बहुत गर्मी वाले दिनों में बुशवॉकिंग करने से परहेज करें, बुशफायर के खतरे वाली अवधियों के रिजर्व बंद है या नहीं, इसकी जांच काउंसिल की वेबसाइट पर



करें। अपने पैरों का ध्यान रखें, रास्ते असमतल और ढलान वाले हो सकते हैं



पत्थर की चट्टानों से पानी में छलॉंग न मारें क्योंकि पानी में डूबी हुई वस्तुएँ हो सकती हैं



पानी की गुणवत्ता को ध्यान में रखें, खासकर वर्षा होने के बाद



नदियों में तेज़ी से पानी भरकर ऊपर उठ सकता है, यदि आपको तैरना नहीं आता है तो पानी में न जाएँ



हमेशा किसी मित्र के साथ जाएँ, उचित कपड़े पहनें और भोजन व पानी अपने साथ लेकर जाएँ



हमेशा अपने साथ मोबाइल फोन लेकर जाएँ और ध्यान दें कि कुछ स्थानों पर रिसेप्शन न हो



सांपों सहित स्थानीय वन्यजीव पर नज़र रखें

आपातकालीन स्थिति में 000 पर फोन करें या आपातकालीन सेवाओं के लिए मोबाइल फोन से 112 पर फोन करें।



Need assistance interpreting this
information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

अष्ट्रेलियाली झाडी एक विशेष स्थान हो, तपाईंले मनोरञ्जन लिनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौ।



अति गर्मी दिनहरूमा वनजङ्गलमा हिँड्न नजानुहोस्, डढेलो लाग्ने खतराको समयमा रिजर्भ बन्द हुने अवधिहरूको लागि काउन्सिलको वेबसाइट हेर्नुहोस्।



बाटोहरू असमतल र भिरालो हुनसक्छ, पाइला टेक्दाखेरि विचार पुर्याउनुहोस्



पानीको सतहमुनि वस्तुहरू हुनसक्ने भएकोले चट्टानहरूबाट पानीमा हाम नफाल्नुहोस्



पानीको गुणस्तर प्रति विचार पुर्याउनुहोस्, खासगरि पानी परे पश्चात



नदिहरूको सतह छिट्टै बढ्न सक्छ, यदि पौडि खेलन सक्नुहुन्न भने पानीमा नपस्नुहोस्



सधैं साथिसङ्ग जानुहोस्, उपयुक्त लुगा लगाउनुहोस् र खानेकुरा र पानी लैजानुहोस्



सधैं मोबाइल फोन बोक्नुहोस् र कुनै कुनै स्थानमा फोनले काम नगर्न पनि सक्छ भनी याद गर्नुहोस्



सर्पहरू लगायत स्थानीय वन्यजन्तुहरूबाट सावधान रहनुहोस्

आपत्कालिन अवस्थामा तिन शुन्य (000) मा फोन गर्नुहोस् वा आपत्कालिन सेवाहरूको लागि 112 मोबाइलमा फोन गर्नुहोस्



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation











CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

O le togāvaio matua o Ausetalia, o se nofoaga fa'apitoa, matou te manana'o ia outou fiafia ai ma saogalemū.

-  'Aua ne'i o ni savaliga i aso vela tele, siaki le 'upega tafa'ilagi a le Council mo taimi e tatala ai i vaitaimi e lamatia ai mai mū i le togāvaio
-  Savali fa'aeteete, e patupatu ma a'egā 'auala
-  'Aua le fepuna i totonu o le vai mai papa ne'i i ai ni mea i totonu o le vai e te ono lavea ai
-  Manatua e siaki pe lelei le suavai, aemaise i taimi fa'ato'ā mae'a timuga
-  'Afai e te lē iloa 'a'au, 'aua e te alu i totonu o le vai, e vave tele ona sua tetele ma loloto le vai
-  Tautuanā e te lua o ma sau uō, fai lavalava talafeagai ma 'ave ni mea'ai ma ni vai inu
-  Ia 'ave se telefoni fe'avea'i ma manatua e i ai nofoaga e lē ola ai le telefoni
-  Va'ava'ai solo mo meaola o lo'o tata'a ma nonofo i le togāvaio e aofia ai gata

Mo ni fa'alavelave fa'afuase'i vili le 000 po'o le 112 i lau telefoni fe'avea'i mo 'au'aunaga mo fa'alavelave



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation











CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

El bosque australiano es un lugar especial. Disfrútelo de forma segura.

-  Evite el senderismo en días de mucho calor. Consulte los cierres en épocas de incendios en el sitio web de la Municipalidad.
-  Cuidado al andar: los senderos pueden ser irregulares y empinados.
-  No salte al agua desde las rocas: puede haber elementos sumergidos.
-  Precaución con la calidad del agua, especialmente después de las lluvias.
-  El nivel de los ríos puede subir rápidamente: no entre al agua si no sabe nadar.
-  Vaya siempre acompañado y lleve ropa adecuada, agua y comida.
-  Lleve siempre teléfono móvil y tenga en cuenta que en algunos lugares no hay cobertura.
-  Esté atento a la fauna local, incluidas las serpientes.

En caso de emergencia, llame al 000 o al 112 desde un móvil.



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

آسٹریلین جنگل ایک خاص جگہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تفریح کریں اور محفوظ رہیں۔

بہت گرم دنوں میں جنگلات میں چہل قدمی سے گریز کریں، جنگلات میں آگ لگنے کے خطرے دوران ریزرو کی بندش کی معلومات کے لیے کونسل کی ویب سائٹ چیک کریں۔



اپنے قدموں پر دھیان رکھیں، راستے ناہموار اور ڈھلوان ہوسکتے ہیں



چٹانوں پر سے پانی میں نہ چھلانگ لگائیں کیونکہ زیر آب چیزیں موجود ہوسکتے ہیں



پانی کی کیفیت کا خیال رکھیں، خاص طور پر بارش کے بعد



دریا کی سطح تیزی سے بڑھ سکتی ہیں، اگر آپ تیر نہیں سکتے تو پانی میں داخل نہ ہوں



ہمیشہ کسی دوست کے ساتھ جائیں، مناسب لباس پہنیں اور کھانا اور پانی ساتھ لیں



ہمیشہ موبائل فون اپنے ساتھ رکھیں اور نوٹ کریں کہ کچھ جگہوں پر موبائل ریسپنشن نہیں ہوتی



مقامی جنگلی حیات بشمول سانپوں پر نظر رکھیں



In an emergency call 000 Or 112 on a mobile phone for emergency services.



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN



It's our Backyard

Rừng cây ở Úc là nơi chốn đặc biệt, chúng tôi muốn bạn vui chơi và giữ an toàn.



Tránh đi chơi trong rừng vào những ngày quá nóng, xem trang mạng của Hội đồng Thành phố về việc đóng cửa khu rừng bảo tồn trong các thời gian nguy hiểm do cháy rừng



Cẩn thận với bước chân của bạn, các đường mòn có thể gập ghềnh và dốc đứng



Đừng nhảy xuống nước từ các tảng đá vì có thể có vật gì đó nằm chìm dưới nước



Lưu ý xem nước có sạch hay không, nhất là sau khi mưa



Nước trong sông rạch có thể dâng cao nhanh chóng, nếu bạn không biết bơi thì đừng xuống nước



Luôn đi với bạn bè, mặc quần áo thích hợp và mang theo thức ăn cùng nước uống



Luôn mang theo điện thoại di động và nên nhớ rằng có thể không có sóng ở một số địa điểm



Đề phòng thú hoang ở địa phương gồm cả rắn

Trong trường hợp khẩn cấp hãy gọi 000 Hay 112 trên điện thoại di động để gọi các dịch vụ cứu cấp.



Need assistance interpreting this information, visit our website for translation



CAMPBELLTOWN